



جب ہم (کسی بلندی پر) چڑھتے، تو ”اللہ اکبر“ کہتے اور جب (کسی نشیب میں) اترتے، تو ”سبحان اللہ“ کہتے تھے

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم (کسی بلندی پر) چڑھتے، تو ”اللہ اکبر“ کہتے اور جب (کسی نشیب میں) اترتے، تو ”سبحان اللہ“ کہتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کا لشکر جب وادی پر چڑھتا، تو تکبیر کہتا اور جب (کسی نشیب میں) اترتا، تو تسبیح پڑھتا [یہ حدیث اپنی دونوں روایات کے اعتبار سے صحیح ہے] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

اونچی جگہ چڑھتے ہوئے تکبیر کہنے کی مناسبت یہ کہ بلندی اور اونچائی دلوں کو محبوب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بڑائی محسوس ہوتی ہے چون کہ انسان اپنے کو بڑا محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے ”اللہ اکبر“ کہنے یعنی اپنی نسبت چھوٹے ہونے کی طرف کرنا جہاں تک اللہ کی کبریا کی بات ہے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شخص بلندی کی طرف چڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے اور دل میں رکھے کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے، پس اس کے شکر کے طور پر تکبیر کہے، تاکہ اس کے فضل میں اضافہ ہو اور اترتے وقت تسبیح کہنے کی مناسبت یہ کہ نیچی جگہ تنگی کا باعث ہوا کرتی ہے چنانچہ شریعت نے اس میں تسبیح کا حکم دیا؛ کیونکہ تسبیح فراخی کا سبب ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ انہوں نے تاریکیوں میں تسبیح کہی، تو انہیں مصیبت سے نجات مل گئی اسی طرح کسی جگہ سے اترنا بھی ایک طرح سے ذلت ہے، اس لیے ”سبحان اللہ“ کہنے یعنی اللہ تعالیٰ سے ذلت اور پستی سے بچاؤ؛ کیوں کہ وہ پاک ذات ہر چیز کے اوپر ہے اسی طرح جہاز کے اوپر چڑھتے وقت تکبیر کہنی چاہیے اور اس کے ہوائی اڈے پر اترتے وقت تسبیح کہنی چاہیے، اس لیے کہ ہوا میں چڑھنے اور اترنے یا زمین پر چڑھنے اور اترنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6206>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

